



آگ سے  
بچاؤ

اپنے گھر اور اپنے خاندان کو  
آگ سے بچائیں


# سموک الارم اور بیچ نکلنے کی منصوبہ بندی

اپنے گھر اور اپنے خاندان کو آگ سے بچائیں

**سموک الارم زندگیاں بچاتے ہیں!**

گھر میں آگ لگنے کے زیادہ تر جان لیوا واقعات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ چالو حالت میں نصب شدہ فائر الارم آپ کو بیچ نکلنے کا ابتدائی انتباہ دیتے ہیں جس کی آپ کو آگ سے بیچ نکلنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے۔

**1. سموک الارم آپ کے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر لازماً نصب کئے جانے چاہئیں۔**



**2. اپنے سموک الارم میں بیٹریاں تبدیل کریں سال میں کم از کم ایک مرتبہ یا پھر بیٹری کی طاقت کم ہونے پر بجنے والی آواز پر بیٹری تبدیل کریں۔**



**3. الارم ٹیسٹ بٹن کے استعمال سے ہر ماہ اپنے سموک الارم ٹیسٹ کریں۔ اپنے مالک کیلئے کتابچے پر عمل کریں۔**



**4. ہر چھ ماہ بعد اپنے سموک الارم کو آپسٹگی سے ویکيوم کیجئے۔**




5. اگر سموک الارم دس سالوں سے زیادہ پرانے ہو گئے ہوں تو انہیں تبدیل کیا جانا چاہئے۔


بچ نکلنے کا منصوبہ بنا کر رکھنا آپ کی جان بچا سکتا ہے!

گھر کی آگ سے بچ نکلنے کا منصوبہ بنائیں اور باقاعدگی سے گھر میں ہر فرد کے ساتھ اس کی مشق کریں۔

1. بچ نکلنے کا پلان تیار کیجئے اور سال میں دو بار اس کی مشق کریں۔




2. ہر کمرے سے باہر نکلنے کے دو راستوں کو جائیں۔



3. ملاقات کیلئے جگہ مخصوص کریں۔

باہری راستہ

4. جب باہر نکل جائیں، تو 911 کو کال کریں۔





# باورچی خانے میں آگ سے بچاؤ

کھانا پکانا گھروں میں لگنے والی آگ، آگ سے اموات اور جلنے سے زخمی ہونے کا زیادہ تر سبب ہے۔

جب آپ باورچی خانے میں ہوں تو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا:

1. جب آپ کھانا پکائیں تو کھانے پر نگاہ رکھیں۔

کچن میں موجود رہیں، کبھی باہر نہ جائیں۔



2. اسٹوو کے اوپر کی سطح اور اوون کو صاف ستھرا رکھیں۔ چکنائی اور دیگر کھانے آگ پکڑ سکتے ہیں۔

3. ڈھکنا اوپر رکھ دیں۔ اگر برتن آگ پکڑ لے، تو برتن کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں اور چولہے کو بند کر دیں۔

برتن کو چولہے پر سے اتارنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ گرم چکنائی بہہ سکتی ہے جو بری طرح جلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ چکنائی سے لگنے والی آگ پر پانی ڈالنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، 911 کو کال کریں۔





4. آدھی، اوپر چڑھائی ہوئی یا تنگ  
آستینیں پہنیں۔  
ڈھیالے ڈھالے کپڑے آگ پکڑ  
سکتے ہیں۔



5. برتنوں کے ہینڈلوں کو اندرونی جانب  
گھما کر رکھیں۔

برتن چولہے سے گرسکتے ہیں یا چھوٹے  
بچے انہیں کھینچ کر گرا سکتے ہیں۔

6. جلی ہوئی جگہ کو ٹھنڈا کریں۔  
معمولی جلی ہوئی جگہ پر کٹی  
منٹوں تک ٹھنڈا پانی بہائیں۔




7. کھانا پکانا آپ سے پرسکون اور ہوشیار رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔

جب آپ نے دوا لی ہوئی ہو یا شراب کے نشہ کے زیر اثر ہوں تو کھانا پکانے سے پرہیز کریں۔

8. کھانا پکانے کے دوران بچوں کو

چولہے سے دور رکھیں۔

(کم از کم 3 فٹ یا 1 میٹر)۔



9. کاتھ کباز کو صاف کریں۔

جلنے والی تمام چیزوں کو چولہے سے دور رکھیں۔



10. اگر آپ کے ہاں آگ لگ جائے تو 911 کو کال کریں۔





# آپ کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ سے بچاؤ

آگ سے بچاؤ کی مشقیں بشمول اپارٹمنٹ بلڈنگوں کے تمام گھروں کیلئے ضروری ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح بچ نکلا جائے۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دھوئیں سے لازماً بچا کر رکھیں۔



اگر آپ کے اپارٹمنٹ میں آگ لگ جائے تو:

1. ہر ایک کو باہر نکل جانے کا کہیں۔
2. اپنے پیچھے تمام دروازوں کو بند کرتے جائیں۔
3. فائر الارم کو کھینچ دیں اور آگ لگنے کا شور مچا دیں۔
4. قریب ترین سیڑھیوں کو استعمال کرتے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکل جائیں۔
5. جب باہر نکل جائیں، تو آگ بجھانے والے محکمے کو 911 پر کال کریں۔

جب آپ فائر الارم سنیں... تو رکنے یا چلے جانے کا فیصلہ  
آپ کا ہے؟

اکثر اوقات سب سے بہتر کام یہ ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ سے فوراً نکل جائیں۔ بعض اوقات آپ نکلنے کے قابل نہیں ہونگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اپارٹمنٹ ہی میں رکتا پڑے۔ فیصلہ کریں اور اس پر فوری طور پر عمل کریں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دھوئیں سے بچا کر رکھیں۔

اگر آپ بلڈنگ سے نکلنے کا فیصلہ کریں تو:

اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ چیک کریں۔

اگر دھواں آپ کے دروازے سے اندر آ رہا ہو تو دروازہ مت کھولیں۔

اگر کوئی دھواں نہ ہو، تو دروازہ تھوڑا سا کھول لیں۔

اگر رازہ داری صاف ہو تو قریب ترین سیڑھیوں سے باہر نکل جائیں۔


قریب ترین سیڑھیوں کا دروازہ کھولیں، اگر وہاں دھواں ہو، تو داخل نہ ہوں۔

دروازہ بند کر دیں اور دوسری سیڑھیوں کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ کو کوئی

بھی سیڑھی دھوئیں کے بغیر نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دھوئیں سے

بچانے کیلئے آپ کو اپنے اپارٹمنٹ میں واپس جانا پڑے۔

ایلی ویٹر استعمال نہ کریں!



اگر آپ بلڈنگ سے باہر نہیں نکل سکتے

تو اپنے آپ کو دھوئیں سے لازمی طور پر بچانا چاہئیے۔ اپنے اپارٹمینٹ میں اس وقت تک رکے رہیں جب تک آپ کو بچا نہیں لیا جاتا یا نکلنے کو نہیں کہا جاتا۔

دھوئیں کو اپنے اپارٹمینٹ میں داخل نہ ہونے دیں، دروازوں اور ہوا کی نکاسی کے راستوں کو بند کرنے کیلئے ڈکٹ ٹیپ اور گیلے تولیے استعمال کریں۔



اگر دھواں اندر آجائے، تو 911 کو کال کر کے اپنے مقام کا پتہ دیں اور بالکونی یا قریبی کھڑکی کی طرف چلے جائیں، اپنے پیچھے تمام دروازے بند کر دیں۔

فلش لائٹ کو یا کسی ہلکے رنگ کے کپڑے کو ہلا بلا کر آگ بجھانے والے عملے کو اشارے دیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ کہاں پر موجود ہیں۔ توجہ حاصل کرنے کیلئے شور مچائیں۔

اگر آپ دھوئیں کے اندر ہیں تو فرش سے قریب نیچے کی جانب رہیں، جہاں پر ہوا نسبتاً صاف ہوتی ہے۔ دھواں اوپر جاتا ہے۔ آپ نیچے جائیں۔



# خروج

خروج کے تمام راستوں کا علم رکھیں اور مشق کریں کہ ہنگامی صورت حال میں کیا کرنا چاہئیے۔



# موم بتیوں، سپیس ہیٹروں اور بجلی کے آلات کے ساتھ آگ

## سے بچاؤ

### موم بتیاں

درج ذیل اقدامات پر عمل کریں:

1. کمرہ چھوڑنے یا بستر پر جانے سے پہلے موم بتیاں بجھا دیں۔ کمرے میں اس جگہ ٹھہریں جہاں موم بتیاں جلائی جا رہی ہوں۔



2. موم بتیوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں جو جل سکتی ہیں۔ مثلاً پردے، کاغذ، (کم از کم 0.3 میٹر یا ایک فٹ دور)



3. موم بتیوں، لائٹروں اور ماچسوں کو بچوں کی پہنچ اور ان کی نظروں سے دور رکھیں۔



4. موم بتیاں سونے والے کمرے میں استعمال نہیں کی جانی چاہئیں۔

5. موم بتیوں کو گرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہولڈرز میں رکھیں۔

6. موم بتی کو پختہ اور صاف جگہ پر جلائیں۔




## سپیس ہیٹرز

نقل پذیر سپیس ہیٹرز بہت سی مرتبہ تشویشناک گھریلو آگ لگنے کا سبب بنتے رہے ہیں۔

### سپیس ہیٹروں کے ارد گرد جگہ چھوڑیں

سپیس ہیٹرز کو ان تمام چیزوں سے کم از کم ایک میٹر (3 فٹ) دور رکھیں جو با آسانی جل جاتی ہیں: کاغذ، بستر، فرنیچر، پردے وغیرہ۔



اپنے سپیس ہیٹر کو کبھی اکیلا نہ چھوڑیں!

سونے سے پہلے اپنے سپیس ہیٹر کو بند کر دیں۔



کبھی بھی اپنے ہیٹر کو کپڑے یا جوتے سکھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔

تمام سپیس ہیٹروں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔



## بجلی سے چلنے والے آلات

1. نقصان زدہ بجلی کی تار کو تبدیل کریں۔



2. ایک وقت میں ایک سرکٹ میں صرف (1) حرارت پیدا کرنے والا آلہ لگائیں۔



3. ایکسٹینشن کی تاروں کو دروازوں کے آر پار یا قالین کے نیچے سے نہ گذاریں، یا انہیں فرنیچر کے نیچے یا پیچھے نہ دبنے دیں۔



# ہنگامی صورت حال میں 911 کو کال کریں

دھوئیں کے الارم نصب کریں

اپنے گھر کی ہر منزل پر اور خواب گاہ کے بیرونی حصوں میں۔ ہر ماہ اپنے  
دھوئیں کے الارم ٹیسٹ کیجئے اور سال میں کم از کم ایک بار بیٹریاں تبدیل  
کریں۔

ہمارا خاندان آپکے خاندان کی مدد کرتا ہے!



ونڈسر کا ایک فائر فائٹر تمام فائر فائٹنگ کے آلات سے لیس

یہ معلومات مندرجہ ذیل کی جانب سے فراہم کی گئی ہے:  
ونڈسر فائر اینڈ ریسکیو سروسز



www.windsorfire.com پر ہمارا دورہ کریں

معلومات عامہ کیلئے کال کریں: (519) 253-6573